

برائے فوری اجراء

**فنانشل رپورٹنگ میں سٹی آف برامپٹن کی شاندار کارکردگی کو تسلیم کر لیا گیا ہے**

برامپٹن، آن (29 اپریل 2021) – مسلسل 19 ویں سال بھی، سٹی آف برامپٹن نے ریاستہائے متحدہ اور کینیڈا کی گورنمنٹ فنانس آفیسرز ایسوسی ایشن (GFOA) کی جانب سے عطا کی جانے والا کینیڈین ایوارڈ فار فنانشل رپورٹنگ (CANFR) جیت لیا ہے۔

CANFR ایوارڈ جو سٹی کی 2019 کی **سالانہ فنانشل رپورٹ** پر عطا کیا گیا ہے، میں حکومت کی اکاؤنٹنگ اور فنانشل رپورٹنگ میں نمایاں کارکردگی کو تسلیم کیا گیا ہے اور یہ مقامی حکومت اور اس کے انتظامات کے حوالے سے ایک اہم کارنامے کا بھی اعتراف کرتا ہے۔

برامپٹن نے کینیڈا کے چارٹرڈ پروفیشنل اکاؤنٹنٹس (CPA) کے پبلک سیکٹر اکاؤنٹنگ بورڈ (PSAB) کی جانب سے مقرر کردہ جینرلی ایکسیٹنڈ اکاؤنٹنگ پرنسپلز (GAAP) کے کم سے کم تقاضوں سے تجاوز کر کے اور ایک جامع اور اعلیٰ معیار کی سالانہ فنانشل رپورٹ تیار کر کے یہ CANFR ایوارڈ جیتا ہے۔ جس کی بنیادیں شفافیت اور حکومتی معلومات کے مکمل انکشاف کی روح سے جڑی ہوئی ہے۔

CANFR ایوارڈ پروگرام کینیڈا میں میونسپل حکومتوں کو اعلیٰ معیار کی فنانشل رپورٹیں شائع کرنے اور ان رپورٹوں کو تیار کرنے والے افسران کے لیے ان کے ہم مرتبہ رفقاء کی کار کی جانب سے ان کی کاوشوں کو تسلیم کیے جانے اور انہیں تکنیکی رہنمائی فراہم کرنے کی ترغیب دینے کے مقصد کے تحت قائم کیا گیا تھا۔

سالانہ فنانشل رپورٹ کا جائزہ کینیڈا کی غیر جانبدار ریویو کمیٹی کے ممبران نے اس پروگرام کے اعلیٰ معیار پر پورا اترنے کے لیے لیا ہے، جس میں ایک تعمیری "مکمل انکشاف کی روح" کا اظہار کرنا شامل ہے اور اس کا مقصد برامپٹن کی مالی صورت حال کا ایک واضح خاکہ پیش کرنا ہوتا ہے تاکہ ممکنہ صارفین اور صارفین کے گروہ اس رپورٹ کو پڑھنے میں رغبت حاصل کریں۔

**اقتباسات**

"ہمارے ٹیکس دہندگان ہم سے مکمل شفافیت اور بہترین مالی کوششوں سے کم کسی چیز کی توقع نہیں کرتے۔ فنانشل رپورٹنگ پر GFOA کی جانب سے اس اعزازی ایوارڈ کا حصول اپنے شہریوں کے ساتھ ہماری وابستگی کی توثیق کرتا ہے اور ہماری اس پہچان کو تقویت فراہم کرتا ہے کہ ہم برامپٹن میں قومی اور بین الاقوامی سرمایہ کاری کو راغب کرنے کی بھرپور کوششیں کرتے رہتے ہیں۔"

- پیٹرک براؤن، میئر، سٹی آف برامپٹن

"مجھے یہ کہتے ہوئے فخر محسوس ہو رہا ہے کہ برامپٹن CANFR کا یہ باوقار اور عالی شان ایوارڈ مسلسل 19 سالوں سے جیت رہا ہے۔ ایوارڈ پروگرام کی سخت شرائط پر پورا اترنے کے لیے سالانہ رپورٹ کی تیاری میں مصروف عمل عملے کی جانب سے ایک اہم اور خصوصی عزم کی ضرورت ہوتی ہے۔"

- برکیرات سنگھ، سٹی کونسلر وارڈز 9 اور 10؛ چیئر، کوآپریٹ سروسز، سٹی آف برامپٹن

"CANFR ایوارڈ کا حصول سٹی آف برامپٹن اور اس کے عملے کے شاندار کارناموں کا ایک منہ بولتا ثبوت ہے۔ اس ایوارڈ کا جیتنا ہمارے عملے اور فنانشل رپورٹنگ میں سٹی کے اعلیٰ معیارات اور شفافیت اور حکومتی معلومات کو افشاء کرنے کے اصولوں کی پاسداری کا ایک واضح ثبوت ہے، جو کونسل کی برامپٹن کے لیے ایک 'ویل رن سٹی' کی ترجیح سے بھرپور مطابقت رکھتا ہے۔"

- ڈیوڈ بیرک، چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسر، سٹی آف برامپٹن

30--

کینیڈا میں تیز ترین رفتار سے بڑھنے والے شہروں میں سے ایک کے طور پر برامپٹن 700,000 سے زائد لوگوں اور 75,000 سے زائد کاروباروں کا گھر ہے۔ ہمارے ہر عمل کا مرکز عوام ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی متنوع کمیونٹی سے توانائی ملتی ہے، ہم سرمایہ کاری کے لیے کشش پیدا کرتے ہیں اور ہم ٹیکنالوجی اور ماحولیاتی جدت میں رہنما کردار ادا کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم اس لیے شراکت داری کرتے ہیں تاکہ ہم ایک ایسا صحت مندانہ شہر بنا سکیں جو محفوظ، قابل دوام اور کامیاب ہو۔ ہمارے ساتھ **ٹویٹر**، **فیس بک** اور **انسٹاگرام** پر مربوط ہوں۔ [www.brampton.ca](http://www.brampton.ca) پر مزید جانیں۔

**میڈیا کنٹیکٹ**

مونیکا ڈوگال  
کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ  
اسٹریٹیجک کمیونیکیشن  
سٹی آف برامپٹن

905-874-3426 | [Monika.Duggal@brampton.ca](mailto:Monika.Duggal@brampton.ca)